

# Rev

## Chapter 17

### Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	Καὶ	ἦλθεν	εἷς	ἐκ	τῶν	ἑπτὰ	ἀγγέλων	τῶν	ἐχόντων	τὰς	ἑπτὰ	
	اور	آیا	ایک	سے	ان	سات	فرشتوں-میں-سے	ان	رکھنے-والوں	وہ	سات	
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G2064</a>	<a href="#">G1520</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2033</a>	<a href="#">G0032</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2192</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2033</a>	
	φιάλας,	καὶ	ἐλάλησεν	μετ’	ἐμοῦ,	λέγων	Δεῦρο,	δείξω	σοι	τὸ	κρίμα	τῆς
	پیالے	اور	بولا	ساتھ	میرے	کہتا-ہوا	آ	دکھاؤں	تجھے	وہ	سزا	اُس
	<a href="#">G5357</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G2980</a>	<a href="#">G3326</a>	<a href="#">G1473</a>	<a href="#">G3004</a>	<a href="#">G1204</a>	<a href="#">G1166</a>	<a href="#">G4771</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2917</a>	<a href="#">G3588</a>
	πόρνης	τῆς	μεγάλης,	τῆς	καθημένης	ἐπὶ	ύδάτων	πολλῶν;				
	فاحشہ-کی	اُس	بڑی	اُس	بیٹھی-ہوئی	پر	پانیوں	بہت				
	<a href="#">G4204</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3173</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2521</a>	<a href="#">G1909</a>	<a href="#">G5204</a>	<a href="#">G4183</a>				

گہرے جو دوں دکھا سزا کی کسبی بڑی اُس تجھے میں آ، کہا، نے اُس آیا۔ پاس میرے ایک سے میں فرشتوں سات ان والے رکھنے پاس اپنے پیالے سات پھر ہے۔ بیٹھی پاس کے پانی

2	μεθ’	ἧς	ἐπόρνευσαν	οἱ	βασιλεῖς	τῆς	γῆς;	καὶ	ἐμεθύσθησαν	οἱ		
	ساتھ	جس-کے	زنا-کیا	ان	بادشاہوں-نے	اُس	زمین-کے	اور	متوالے-ہوئے	وہ		
	<a href="#">G3326</a>	<a href="#">G3739</a>	<a href="#">G4203</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0935</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1093</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3182</a>	<a href="#">G3588</a>		
	κατοικοῦντες	τὴν	γῆν	ἐκ	τοῦ	οἴνου	τῆς	πορνείας	αὐτῆς.			
	بسنے-والے	اُس	زمین	سے	اُس	مے-سے	اُس	حرامکاری-کے	اُس-کی			
	<a href="#">G2730</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1093</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3631</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4202</a>	<a href="#">G0846</a>			

گئے۔ بو مست باشندے کے زمین سے مے کی زناکاری کی اُس ہاں، کیا۔ زنا ساتھ کے اُس نے بادشاہوں کے زمین

3	καὶ	ἀπήνεγκέν	με	εἰς	ἔρημον	ἐν	Πνεύματι;	καὶ	εἶδον	γυναῖκα		
	اور	لے-گیا	مجھے	میں	بیابان	میں	روح	اور	میں-نے-دیکھا	عورت		
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G0667</a>	<a href="#">G1473</a>	<a href="#">G1519</a>	<a href="#">G2048</a>	<a href="#">G1722</a>	<a href="#">G4151</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3708</a>	<a href="#">G1135</a>		
	καθημένην	ἐπὶ	θηρίον	κόκκινον,	γέμοντα	ὀνόματα	βλασφημίας,	ἔχων	κεφαλὰς			
	بیٹھی-ہوئی	پر	حیوان	سرخ	بھرے-ہوئے	ناموں-سے	کفر-کے	رکھنے-والے	سر			
	<a href="#">G2521</a>	<a href="#">G1909</a>	<a href="#">G2342</a>	<a href="#">G2847</a>	<a href="#">G1073</a>	<a href="#">G3686</a>	<a href="#">G0988</a>	<a href="#">G2192</a>	<a href="#">G2776</a>			
	ἑπτὰ,	καὶ	κέρата	δέκα.								
	سات	اور	سینگ	دس								
	<a href="#">G2033</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G2768</a>	<a href="#">G1176</a>								

جسم پورے کے جس تھی سوار پر حیوان کے رنگ قرمزی ایک وہ دیکھا۔ کو عورت ایک نے میں وہاں گیا۔ لے میں ریگستان ایک میں روح مجھے فرشتہ پھر تھے۔ سینگ دس اور سر سات کے جس اور تھے لکھے نام کے کفر پر

4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ  
 اور وہ عورت تھی پہنی-بوئی ارغوانی اور سرخ اور  
[G2532](#) [G3588](#) [G1135](#) [G1510](#) [G4016](#) [G4210](#) [G2532](#) [G2847](#) [G2532](#)  
 κεχρυσωμένη χρυσίω καὶ λίθω τιμίω καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον  
 سنہرے-سے-مڑھی سے سونے-سے اور پتھر-سے قیمتی اور موتیوں-سے رکھتی-بوئی پیالہ  
[G5558](#) [G5553](#) [G2532](#) [G3037](#) [G5093](#) [G2532](#) [G3135](#) [G2192](#) [G4221](#)  
 χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς  
 سنہرا میں اُس ہاتھ اُس-کے بھرا مکروباتوں-سے اور وہ ناپاکیاں اُس  
[G5552](#) [G1722](#) [G3588](#) [G5495](#) [G0846](#) [G1073](#) [G0946](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0169](#) [G3588](#)  
 πορνείας αὐτῆς;  
 حرامکاری-کی اُس-کی  
[G4202](#) [G0846](#)

تھا پیالہ ایک کا سونے میں ہاتھ کے اُس تھی۔ بوئی سچی سے موتیوں اور جواہر قیمت بیش سونے، اور پہنے کپڑے کے رنگ قرمزی اور ارغوانی عورت یہ  
 تھا۔ بوا بھرا سے گندگی کی زناکاری کی اُس اور چیزوں گھنونی جو

5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον, μυστήριον ΒΑΒΥΛΩΝ ἡ  
 اور پر اُس پیشانی اُس-کی نام لکھا-بوا بھید بابل وہ  
[G2532](#) [G1909](#) [G3588](#) [G3359](#) [G0846](#) [G3686](#) [G1125](#) [G3466](#) [G0897](#) [G3588](#)  
 ΜΕΓΑΛΗ, ἡ ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ.  
 بڑی وہ ماں اُن فاحشاؤں-کی اور اُن مکروباتوں-کی اُس زمیں-کی  
[G3173](#) [G3588](#) [G3384](#) [G3588](#) [G4204](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0946](#) [G3588](#) [G1093](#)

ماں۔ کی چیزوں گھنونی کی زمین اور کسبیوں بابل، عظیم ہے، بھید ایک جو تھا، لکھا نام یہ پر ماتھے کے اُس

6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων,  
 اور میں-نے-دیکھا وہ عورت متوالی سے اُس خون اُن مقدسوں-کے  
[G2532](#) [G3708](#) [G3588](#) [G1135](#) [G3184](#) [G1537](#) [G3588](#) [G0129](#) [G3588](#) [G0040](#)  
 καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. Καὶ ἐθαύμασα, ἰδὼν αὐτήν,  
 اور سے اُس خون اُن شہیدوں-کے سے یسوع-کے اور میں-حیران-بوا میں-دیکھ-کر اُسے  
[G2532](#) [G1537](#) [G3588](#) [G0129](#) [G3588](#) [G3144](#) [G2424](#) [G2532](#) [G2296](#) [G3708](#) [G0846](#)  
 θαῦμα μέγα.  
 حیرت-سے بڑی  
[G2295](#) [G3173](#)

بوا۔ حیران نہایت میں کر دیکھ اُسے تھی۔ دی گواہی کی عیسیٰ نے جنہوں تھی گئی ہو مست سے خون کے مقدسین اُن عورت یہ کہ دیکھا نے میں اور

7 καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος, Διὰ τί ἐθαύμασας? ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ  
 اور کہا مجھے اُس فرشتے-نے کیوں کیا حیران-بوا میں بتاؤں-گا تجھے وہ  
[G2532](#) [G3004](#) [G1473](#) [G3588](#) [G0032](#) [G1223](#) [G5101](#) [G2296](#) [G1473](#) [G2046](#) [G4771](#) [G3588](#)  
 μυστήριον τῆς γυναικός, καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ  
 بھید اُس عورت-کا اور اُس حیوان-کا اُس اٹھانے-والے اُسے اُس  
[G3466](#) [G3588](#) [G1135](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2342](#) [G3588](#) [G0941](#) [G0846](#) [G3588](#)  
 ἔχοντος τὰς ἐπτὰ κεφαλὰς, καὶ τὰ δέκα κέρατα.  
 رکھنے-والے وہ سات سر اور وہ دس سینگ  
[G2192](#) [G3588](#) [G2033](#) [G2776](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1176](#) [G2768](#)

سر سات کے جس اور بے سوار عورت پر جس گا دوں کھول بھید کا حیوان اُس اور عورت پر تجھ میں ہے؟ حیران کیوں اٹھ پوجھا، سے مجھ نے فرشتے  
 ہیں۔ سینگ دس اور



12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες, δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν  
 اور وہ دس سینگ جو تو-نے دیکھے دس بادشاہ ہیں جنہوں-نے بادشاہت  
[G2532](#) [G3588](#) [G1176](#) [G2768](#) [G3739](#) [G3708](#) [G1176](#) [G0935](#) [G1510](#) [G3748](#) [G0932](#)

οὕτω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς, μίαν ὥραν λαμβάνουσιν, μετὰ τοῦ  
 ابھی-تک پائی-نہیں لیکن اختیار جیسے بادشاہ ایک گھڑی پاتے-ہیں ساتھ  
[G3768](#) [G2983](#) [G0235](#) [G1849](#) [G5613](#) [G0935](#) [G1520](#) [G5610](#) [G2983](#) [G3326](#) [G3588](#)

θηρίου.  
 حیوان-کے  
[G2342](#)

گا۔ ملے اختیار کا بادشاہ ساتھ کے حیوان لئے کے بھر گھنٹے انہیں لیکن ملی۔ نہیں بادشاہی کوئی ابھی جنہیں ہیں بادشاہ دس وہ دیکھے نے تو سینگ دس جو

13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν, καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν, τῷ  
 یہ ایک رائے رکھتے-ہیں اور اپنی طاقت اور اختیار اور اپنا اُس  
[G3778](#) [G1520](#) [G1106](#) [G2192](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1411](#) [G2532](#) [G1849](#) [G0846](#) [G3588](#)

θηρίῳ διδόασιν.  
 حیوان-کو دیتے-ہیں  
[G2342](#) [G1325](#)

گے، کریں جنگ سے لیلے اور گے دیں دے کو حیوان اختیار اور طاقت اپنی کر رکھ سوچ ہی ایک یہ

14 οὗτοι μετὰ τοῦ Ἄρνιου πολεμήσουσιν, καὶ τὸ Ἄρνιον νικήσει αὐτούς;  
 یہ ساتھ اُس بڑے-کے لڑیں-گے اور وہ بڑا غالب-آئے-گا اُن-پر  
[G3778](#) [G3326](#) [G3588](#) [G0721](#) [G4170](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0721](#) [G3528](#) [G0846](#)

ὅτι Κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ Βασιλεὺς βασιλέων; καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ,  
 کیونکہ خداوند خداوندوں-کا ہے اور بادشاہ بادشاہوں-کا اور جو ساتھ اُس-کے  
[G3754](#) [G2962](#) [G2962](#) [G1510](#) [G2532](#) [G0935](#) [G0935](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3326](#) [G0846](#)

κλητοί, καὶ ἐκλεκτοί, καὶ πιστοί.  
 بلائے-ہوئے اور چنے-ہوئے اور وفادار  
[G2822](#) [G2532](#) [G1588](#) [G2532](#) [G4103](#)

ہے۔ بادشاہ کا بادشاہوں اور رب کا ربوں وہ کیونکہ گا، آئے غالب پر اُن ساتھ کے پیروکاروں وفادار اور ہوئے چنے گئے، بلائے اپنے لیلایا لیکن

15 Καὶ λέγει μοι, τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὓς ἢ πόρνη κάθηται, λαοὶ  
 اور کہتا-ہے مجھے وہ پانی جو تو-نے دیکھے جہاں وہ فاحشہ بیٹھتی-ہے لوگ  
[G2532](#) [G3004](#) [G1473](#) [G3588](#) [G5204](#) [G3739](#) [G3708](#) [G3757](#) [G3588](#) [G4204](#) [G2521](#) [G2992](#)

καὶ ὄχλοι εἰσὶν, καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι.  
 اور بھیڑ ہیں اور قومیں اور زبانیں  
[G2532](#) [G3793](#) [G1510](#) [G2532](#) [G1484](#) [G2532](#) [G1100](#)

ہے۔ زبانیں اور قومیں ہجوم، اُمّتیں، وہ دیکھا بیٹھی کو کسی نے تو پاس کے پانی جس کہا، سے مجھ نے فرشتے پھر

16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες, καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσιν  
 اور وہ دس سینگ جو تو-نے دیکھے اور وہ حیوان یہ نہرت-کریں-گے  
[G2532](#) [G3588](#) [G1176](#) [G2768](#) [G3739](#) [G3708](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2342](#) [G3778](#) [G3404](#)

τὴν πόρνην, καὶ ἡρμηωμένην ποιήσουσιν αὐτήν, καὶ γυμνήν; καὶ τὰς  
 اُس فاحشہ-سے اور ویران کریں-گے اُسے اور ننگا اور اُس-کا  
[G3588](#) [G4204](#) [G2532](#) [G2049](#) [G4160](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1131](#) [G2532](#) [G3588](#)

σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί;  
 گوشت اُس-کا کھائیں-گے اور اُسے جلائیں-گے میں آگ  
[G4561](#) [G0846](#) [G5315](#) [G2532](#) [G0846](#) [G2618](#) [G1722](#) [G4442](#)

گے۔ کریں بہسم اُسے کر کھا گوشت کا اُس اور گے دیں چھوڑ ننگا کے کر ویران اُسے وہ گے۔ کریں نہرت سے کسی وہ دیکھے نے تو سینگ دس اور حیوان جو

17	ὁ	γὰρ	Θεὸς	ἔδωκεν	εἰς	τὰς	καρδίας	αὐτῶν	ποιῆσαι	τὴν	γνώμην
	کیونکہ	وہ	خدا-نے	ڈالا	میں	اُن	دلوں	اُن-کے	کرنے-کو	اپنا	منشا
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1063</a>	<a href="#">G2316</a>	<a href="#">G1325</a>	<a href="#">G1519</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2588</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G4160</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1106</a>
	αὐτοῦ,	καὶ	ποιῆσαι	μίαν	γνώμην,	καὶ	δοῦναι	τὴν	βασιλείαν	αὐτῶν	τῷ
	اپنا	اور	کرنے-کو	ایک	رائے	اور	دینے-کو	اپنی	بادشاہت	اپنی	اُس
	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G4160</a>	<a href="#">G1520</a>	<a href="#">G1106</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G1325</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0932</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G3588</a>
	θηρίῳ,	ἄχρι	τελεσθήσονται	οἱ	λόγοι	τοῦ	Θεοῦ.				
	حیوان-کو	جب-تک	پورے-ہوں	وہ	کلام	اُس	خدا-کے				
	<a href="#">G2342</a>	<a href="#">G0891</a>	<a href="#">G5055</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3056</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2316</a>				

تک جب دیں کر سپرد کے حیوان اختیار اپنا کا کرنے حکومت تک وقت اُس اور کریں پورا مقصد کا اُس وہ کہ ہے دیا ڈال یہ میں دلوں کے اُن نے اللہ کیونکہ جائیں۔ پہنچ نہ تک تکمیل فرمان کے اللہ

18	καὶ	ἡ	γυνὴ	ἦν	εἶδες	ἔστιν	ἡ	πόλις	ἡ	μεγάλη,	ἡ	ἔχουσα
	اور	وہ	عورت	جو	تو-نے-دیکھی	ہے	وہ	شہر	وہ	بڑا	جو	رکھتی-ہے
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1135</a>	<a href="#">G3739</a>	<a href="#">G3708</a>	<a href="#">G1510</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4172</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3173</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2192</a>
	βασιλείαν	ἐπὶ	τῶν	βασιλέων	τῆς	γῆς.						
	بادشاہت	پر	اُن	بادشاہوں	اُس	زمین-کے						
	<a href="#">G0932</a>	<a href="#">G1909</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0935</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1093</a>						

ہے۔ کرتا حکومت پر بادشاہوں کے زمین جو ہے شہر بڑا وہی وہ دیکھا نے تو کو عورت جس